

BUSINESS RECORDER

Simultaneously published from Karachi, Lahore & Islamabad
brecorder.com
Founded by M.A. Zuberi
Karachi, Monday 5 October 2020, 1

Registrate
Atlas Bate
ٹیکرو بئرسنسر
مس فری بیشتری

TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWENTYSEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY WILL BE HELD ON TUESDAY, OCTOBER 27, 2020 AT 2:45 P.M. AT SUITE # 401, 4TH FLOOR, BUSINESS & FINANCE CENTRE, I.I. CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS
ORDINARY BUSINESS:

- To confirm the minutes of the last Extraordinary Annual General Meeting held on April 1, 2020.
 - To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Directors' and the Auditors' reports thereon.
 - To appoint Auditors of the Company for the year 2020-21 and to fix their remuneration.
 - To discuss any other matter with the permission of the Chair.
- Karachi: October 05, 2020
By Order of the Board
COMPANY SECRETARY

NOTES:

- The register of members will remain closed from October 20, 2020 to October 27, 2020 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy. Proxies must be received at the Company's registered office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped and signed.
- Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 will be placed on Company's website <http://tsbl.com.pk> due course of time.
- Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the Share Registrar of the Company.
- Participation in the AGM proceeding via the Video Conference Facility Participation in the AGM proceeding via the Video Conference Facility due to current COVID-19 situation, Shareholders interested to participate in the meeting are requested to share below information at agm2020@tsbl.com.pk for their appointment and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting.

S. No	Name of Shareholder	CNIC No	Folio No	Cell No	Email Address

Video conference link details and login credentials will be shared with those Shareholders whose emails containing all the particulars are received at least 48 hours before the time of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm2020@tsbl.com.pk atleast 48 hours before the time of the meeting.

The Annual Report is being transmitted to shareholders through CD or DVD or USB instead of sending in Book form / hard copy in terms of SECP SRO # 470(I)/ 2016 dated May 31, 2016. The Company has obtained shareholders approval in 26th Annual General Meeting held on October 25, 2019.

DAILY NAWA-I-WAQT KARACHI
روزنامہ نوائے وقت
بانی جمعیۃ نظامی مرحوم
مستشار جمعیۃ نظامی مرحوم
ایڈیٹر میزبان جمعیۃ نظامی کراچی

لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور کوئٹہ سب کے وقت شائع ہوتا ہے

جلد 17، صفحہ 174، 1442 حصے، اکتوبر 2020ء، 20 سون 2077 ب، صفحات رجسٹرڈ نمبر نی ایل اشارہ
UAN 111-222-007 قیمت 20 روپے
356 102 12

سہ ماہی 7 روپے، 7 ماہی 20 روپے، 7 ماہی 20 روپے، 7 ماہی 20 روپے

MONDAY 5 OCTOBER 2020

ٹرسٹ سیکورٹیز اینڈ بروکرینج لمیٹڈ
اطلاع سالانہ اجلاس عام

ذریعہ: بذریعہ اطلاع کیا جاتا ہے کہ کئی سالوں سے سالانہ اجلاس عام ہر سال 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے ہوا آفس نمبر 401، 4th فلوور، بزنس اینڈ فنانس سنٹر، آئی آئی چوندریگار روڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی اجلاس عام ہوتی ہے۔

نوٹس:

- ممبران کا رجسٹر 27 اکتوبر 2020ء (شمول ہر دو ایام) بند رہے گا۔
- اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہلی اہل نمبر اپنی جانب سے شرکت کرنے اور رائے دہی کیلئے کسی دیگر نمبر کو پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔
- اجلاس پناہ میں شرکت اور رائے دہی کے اہلی اہل کی کسی اہل ذمہ داران کے ساتھ ملائی جاوے گی اور پناہ میں شرکت کرنے کیلئے اپنا اصل CNIC لایا جائے گا۔
- 30 جنوری 2020ء کو منظر ہونے والے سال کے لئے کئی کے مالیاتی گوشارے کئی کی ویب سائٹ <http://tsbl.com.pk> پر مقرر وقت کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
- اگر ان جنہوں نے ابھی تک اپنے CNIC کی کاپی اور ای میل ایڈریس جمع نہیں کرائے ہیں اور درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر کئی کے شیئر رجسٹر اور کارڈز میں کریں۔
- AGM کا ذریعہ آئی آئی میں ہونے والا ہے اور کوئی سہولت کے ذریعے شرکت COVID-19 کی موجودہ صورت حال کی وجہ سے AGM کا ذریعہ آئی آئی میں ہونے والا ہے اور کوئی سہولت کے ذریعے شرکت، اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبران سے انتہائی ہے کہ اپنی تفریح اور پراکسی کی تشکیل کے لئے agm2020@tsbl.com.pk پر درج ذیل معلومات اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچائیں۔

نمبر	نام شیئر ہولڈر	CNIC نمبر	فولیو نمبر	سوال نمبر	ای میل ایڈریس

ذریعہ: کئی کی تفصیلات اور لاگ ان کریڈنشلز ممبران کے ساتھ شیئر کی جائے گی جن کی تمام کوائف سمیت ای میل کے ذریعے کئی سے کم از کم 48 گھنٹے قبل وصول ہو جائیں گی۔

شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنی آراء اور سوالات اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل agm2020@tsbl.com.pk پر فراہم کر سکتے ہیں۔

SECP SRO No. 470(I)/2016 مورچہ 31 مئی 2016 کی شرائط میں سالانہ رپورٹس ایک فارم اپڈ کی جائیں اور سالانہ رپورٹس میں ممبران کو USB یا DVD یا CD کے ذریعے تفریح کی جارہی ہے۔ کئی نے 25 اکتوبر 2019ء کو منصفانہ طور پر سالانہ اجلاس عام میں ممبران کی منظوری حاصل کر لی ہے۔

روزنامہ نوائے وقت لاہور (6) اکتوبر 2020ء

ٹرسٹ سیکورٹیز بروکریج لمیٹڈ

اطلاع سالانہ اجلاس عام

فوری اجلاس کیلئے دعوت نامہ: سالانہ اجلاس عام، جو منگل 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔

- 1- تمام ممبران 2020ء کی حساب کتابوں کو منظور کرنے اور ان کی تصدیق کرانے۔
- 2- 30 اکتوبر 2020ء کو منظور ہونے والے سالانہ حساب کتابوں کو منظور کرنے اور ان کی تصدیق کرانے۔
- 3- سالانہ 2020-21 کے حساب کتابوں کو منظور کرنے اور ان کی تصدیق کرانے۔
- 4- ان کی تصدیق کرانے اور ان کی تصدیق کرانے۔

مقامی
سیکرٹری

- 1- تمام ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔
- 2- تمام ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔
- 3- تمام ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔
- 4- تمام ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔
- 5- تمام ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔
- 6- تمام ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔

نمبر	نام	پتہ	تعلق

ممبران کو مطلع کیا گیا ہے کہ سالانہ اجلاس عام 27 اکتوبر 2020ء کو دوپہر 2:45 بجے آفس نمبر 401، چاندنی بازار، لاہور میں منعقد ہوگا۔

TRUST SECURITIES & BROKERAGE LIMITED
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE TWENTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY WILL BE HELD ON TUESDAY OCTOBER 27 2020 AT 2:45 PM AT SUITE # 401, 4TH FLOOR, BUSINESS & FINANCE CENTRE, 11 CHUNDRIGAR ROAD, KARACHI TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

- 1 To confirm the minutes of the last Extraordinary Annual General Meeting held on April 1, 2020
- 2 To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 together with the Directors' and the Auditors reports thereon
- 3 To appoint Auditors of the Company for the year 2020-21 and to fix their remuneration
- 4 To discuss any other matter with the permission of the Chair

By Order of the Board
COMPANY SECRETARY

- NOTES:**
- 1 The register of members will remain closed from October 20, 2020 to October 27, 2020 (both days inclusive)
 - 2 A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as proxy. Proxies must be received at the Company's registered office not less than 48 hours before the meeting and must be duly stamped and signed
 - 3 Any individual beneficial owner of CDC, entitled to attend and vote at this meeting must bring his/her CNIC or passport to prove his/her identity and in case of proxy, a copy of shareholders attested CNIC must be attached with the proxy form. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose
 - 4 The Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2020 will be placed on Company's website <http://tsbl.com.pk> due course of time
 - 5 Members who have not yet submitted photocopy of their CNIC and email address are requested to send the same to the Share Registrar of the Company
 - 6 Participation in the AGM proceeding via the Video Conference Facility
- Participation in the AGM proceeding via the Video Conference Facility due to current COVID-19 situation, Shareholders interested to participate in the meeting are requested to share below information at agm2020@tsbl.com.pk for their appointment and proxy's verification at least 48 hours before the time of the meeting.

S. No	Name of Shareholder	CNIC No	Folio No	Cell No	Email Address

Video conference link details and login credentials will be shared with those Shareholders whose emails containing all the particulars are received at least 48 hours before the time of the meeting. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM on agm2020@tsbl.com.pk at least 48 hours before the time of the meeting.

The Annual Report is being transmitted to shareholders through CD or DVD or USB instead of sending in Book form / hard copy in terms of SECP SRO # 470(II)/2016 dated May 31, 2016. The Company has obtained shareholders approval in 25th Annual General Meeting held on October 25, 2019.